

PRO-V-SAM

FOR FASTEST GROWTH OF ANIMALS

PROVIDES BETTER FCR AND EGG PRODUCTION

Each 1000 gm contains:

Calcium Carbonate..3.307gm
Phosphorus.....4.073gm
Choline Chloride.....10 gm
Lysine.....15.080gm
Methionine.....5.160 gm
Tryptophan.....0.900gm
Cystine.....1.040gm
Threonine.....0.304gm
Vitamin E.....0.500gm

Poultry diets has become increasingly important to optimize diet compositions and meet the demands of modern poultry production. Nutritional supplements have an important role in bird's well-being and performance, along with crucial body functions. The addition of nutritional supplements to the chicken's diet can improve growth of birds and feed conversion ratio and decreased mortality rate.

PRO-V-SAM is the ultimate growth promoting solution for poultry flock. This unique product is specially formulated to provide the birds with the essential nutrients and support they need to achieve optimal growth and development. **PRO-V-SAM** specially formulated to meet the nutritional needs of poultry.

Calcium Carbonate	is an essential mineral important for bone development, muscle and nerve function, egg shell formation and Immune functions.
Phosphorus Oxide	is an important nutrient for bone development, energy metabolism, and cellular signaling.
Choline Chloride	It is an essential nutrient that is required for various physiological functions (Maintenance of cell membrane integrity, Lipid metabolism, Nervous system function, Egg production).
Lysine	is an essential amino acid that plays a critical role in protein synthesis and to support optimal growth and development, as it is one of the most limiting amino acids in their diet.
Methionine	is an essential amino acid that plays a role in protein synthesis, feather development, and antioxidant defense. Birds require methionine for optimal feather growth and health, as well as to protect against oxidative damage.
Tryptophan	is an essential amino acid for poultry that plays a critical role in protein synthesis, niacin synthesis, serotonin production, and immune function.
Cystine	is a non-essential amino acid for poultry that plays a role in protein synthesis, antioxidant defense, immune function, and detoxification. While poultry can synthesize cystine on their own, adequate amounts of dietary cystine can still be beneficial for optimal health and performance.
Threonine	is an essential amino acid for poultry that plays a critical role in protein synthesis, immune function, digestive health, and nervous system function.
Vitamin E	is an essential nutrient for poultry that plays a critical role in antioxidant defense, immune function, reproductive health, and muscle function.



پر وی سیم

تبدیل ہوگی گیم۔۔۔!

اپنا وی پرووی سیم

پولٹری فارمنگ میں متوازن غذا بہت اہمیت رکھتی ہے پرندوں کی جنیاتی پیداواری صلاحیت بہتر ہونے کی وجہ سے پرندوں کی غذائی ضروریات بھی زیادہ ہیں۔ پرندوں کی خوراک اور پولٹری کی جدید پیداوار کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے پرندوں کی خوراک کی ترکیب دن بدن اہم ہوتی جا رہی ہے۔ خوراک میں غذائی اجزاء کا اضافہ پرندوں کی نشوونما اور خوراک میں تبدیلی کے تناسب اور شرح اموات کو کم کر سکتا ہے۔

پرو وی۔ سیم پرندوں کیلئے منرلز، وٹامنز اور امائنو ایسڈز کا ایک متوازن مرکب ہے۔ جو پرندوں کی ضروری غذائی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔
پرو وی۔ سیم پرندوں میں لنکڑا پن کے مسائل ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بہتر گروتھ، وزن میں اضافے اور انڈوں کی پیداوار میں اضافے کیلئے بہت مفید ہے۔

Calcium Carbonate: جو پرندوں میں ہڈیوں کی نشوونما اور مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ اعصابی افعال، انڈوں کے خول کی مضبوطی اور مدافعتی نظام کیلئے بھی ضروری ہے۔

Phosphorus Oxide: پرندوں کی ہڈیوں کی بناوٹ، انرجی میٹابولزم اور سیلز کے سگنل کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

Choline Chloride: پرندوں میں مختلف جسمانی افعال (خلیوں کے گرد موجود جھلی کی سالمیت، چکنائیوں کا میٹابولزم، اعصابی افعال اور انڈوں کی پیداوار) میں کارآمد ہے۔

Lysine: پرندوں کے وزن میں اضافہ کرتا ہے اور FCR کو بہتر کرتا ہے۔

Methionine: جسم میں پروٹین بننے کے عمل، پرندوں کے پروں کی نشوونما اور بطور اینٹی آکسائیڈنٹ کام کرتا ہے۔

Tryptophane: جسم میں پروٹین بننے میں، وٹامن B3 بننے میں اور مدافعتی نظام کو سرانجام دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

Cystine: پرندوں کے مدافعتی افعال اور آکسائیڈو اسٹریس کے دفاع کے طور پر کام کرتا ہے۔

Threonine: انتزیپوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، انتزیپوں میں میوکس کی پیداوار کو بہتر کرتا ہے اور پرندوں کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔

Vitamin E: پٹھوں کے افعال اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔

ایف سی آر میں بہتری کیلئے

تیز ترین نشوونما کیلئے

انڈوں کی پیداوار میں اضافے کیلئے

وزن میں اضافے کیلئے

وٹامن، منرلز اور امائنو ایسڈز کا بہترین مرکب

خوراک و طریقہ استعمال:

لیٹر اور بریڈر میں انڈوں کے سائز اور پیداوار کی بہتری کیلئے 75 سے 100 گرام فی بوری فیڈ۔

لیٹر میں پروڈکشن کیلئے جسمانی وزن کو پورا کرنے کیلئے 100 گرام فی بوری فیڈ۔

برائیلر میں بہتر گروتھ اور ایف سی آر کیلئے 100 سے 120 گرام فی بوری فیڈ۔

پیکنگ: 25 کلوگرام، 5 کلوگرام